

8

Series of the month of Ramadan
زنجیرا ھےقا رھمزانی



HOW TO BENEFIT FROM THE MONTH OF
RAMADAN ?

چاوا خیرا ھےقا رھمزانی بدستخوقه بینین؟



مزگھفت
www.mzgaft.com

بهره فکرن :
شیفان شیخه میری

چاوا خیرا ھیقا رهمه زانی بدهستخوفه بینین؟

بهره فکر

شیخان شیخه میری

مزگهفت

www.mzgaft.com

زنجیرا ھەیفە پەمە زانی

بەرھە فکرن : شیخان شیخەمیری

دیزاین ناڤەرۆکی: سایتی مزگەفت



دیزاین بەرگی: ژێگر سیتە

ھەژمارا زنجیری: (8)

ژ بەرھەمێن: سایتی مزگەفت www.mzgaft.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا¹ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

¹ [البقرة : 183-185]

پیشہ کی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُوسَهُمْ وَرَبَّهُمْ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا).¹

اما بعد:

1- خطبة الحاجة، للشيخ الالباني: (ص 3).

خانده فاني هيژا ئه فه هه يفا ره مه زانا پيروز يا به ره ف مه فه ده يت ،
 ودقيت ئه م ژي ب خوشحالي ودله كي پري باوه ري فه پيشه وازيا
 وي بکه ين ، چونكي ئه ف هه يفا پيروز هه يفا دلوفانيي وليخوش
 بوونا خودايي مه زنه بو به نده يين وي ، به لي ئه ف دلوفانييه
 وليخوش بوونه بو وان که سانه يين رادبن ب گوهداريکرن خودايي
 مه زن ب روژيگرتن و وعيابه تين دي ژ نفيژ و زه کات و کارين چاک.

فيجا من ب فهر زاني رابم ب کومکرن وئاماده کرنا بابه ته كي کو
 به حسي قه در وقيمه تي هه يفا ره مه زاني و روژي وئه حکام وئاداب
 ومفا وچاوانيا خو ئاماده کرن بو روژيگرتنا هه يفا ره مه زاني بکه ت ژ
 سوننه ت و واجيبات وئو تشتين کو روژي پي دشکيت وشه فا
 (ليلة القدر)، وههروه سا زه کاتا فتري بو هندی کو مروفي موسلمان
 ب چاف روني وب شيويه كي زانستي پيشه وازي ل في هه يفا پيروز
 بکه ن ودا توشي خه له تي وگونه ها نه بن د في هه يفي دا ، ودا وي
 خيرا مه زن يا دهه يفا ره مه زانا پيروز دا هه ي ب ده ست خو فه
 بينين ، و ژخودايي مه زن دخازم روژي وعيابه تي مه هه ميا قه بيل
 بکه ت ، وخوشي وئيمناهيي ب سه ر ملله تي مه وهه مي موسلمانا دا
 دارپيژت . ول دوماهيي يا راست ودروست ژ ده ف خودايي بلنده ،
 وخه له تي وژيرکرن ژمن وشه يطاني يه ، و ژخودي دخازم لمن
 ببورت.

قدر و قیمت و بہائی ھے یقا رھمہ زانی

ھے یقا رھمہ زانا پیروز ھے یقہ کا مہزن وب قدرو بہایہ دئیسلامی دا،
وئہ ف چہندہ دیار دبیت دقان ئایہت و حدیسان دا:

۱- ھے یقا رھمہ زانا پیروز ھے یقا ھاتنہ خارا قورئانی یہ : خودایی
مہزن دبیتیت : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ).¹

ئانکو : ھے یقا رھمہ زانی ئہوہ ئہوہ خودی قورئان تیدا ئینایہ خار.

و ئینانہ خارا وی دشہفا خودان قدر و پیروز دا بوو ، وہ کی خودایی
بلند دبیتیت : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)².

ئانکو : مہ - قورئان - یا ئینایہ خار دشہفا خودان قدر دا .

و ھہروہ سا خودایی بلند دبیتیت : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ)³.

ئانکو : مہ - قورئان - یا ئینایہ خاری دشہفہ کا ب بہا و پیروزدا. کو
دکھ فیتہ د ھے یقا رھمہ زانی دا.

1 - البقرة : 185

2 - القدر : 1.

3 - الدخان: 3

۲- دہہیفا رہمہ زانی دا دہرگہہین بہحہشتی دہینہ فہ کرن ویئت
 جہہہننہمی دہینہ گرتن ، وشہیطان تیدا دہینہ گرتان: (ژکیسی
 بابی ہورہیرہی خودی ژی رازی بت گوت: پیغہمبہری خودی
 گوت: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ
 وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ)¹.

ٹانکو : ٹہ گہر - ہہیفا - رہمہ زانی ہات دہرگہہیت بہحہشتی دی
 ہینہ فہ کرن، ودہرگہہیت جہہہننہمی دی ہینہ گرتن ، وشہیطان
 دی ہینہ گرتان.

۳- دہہیفا رہمہ زانی دا ہہر شہف ہندہک دہینہ ٹازا کرن ژ ٹاگری
 جہہہننہمی : ژکیسی بابی ہورہیرہی خودی ژی رازی بت گوت :
 پیغہمبہری خودی گوت: ((وَ لِلَّهِ عُنُقَاءٌ مِنَ النَّارِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ
 لِيْلَةٍ))².

ٹانکو : و خودی ہندہک ٹازاگری یئت ہہین ژ ٹاگری وٹہوژی د
 ہہر شہفہ کی دا - ٹانکو : خودی ہہر شہفہ کی ژ شہفیت ہہیفا
 رہمہ زانی ہندہکا ٹازا دکہت ژ ٹاگری جہہہننہمی.

1 - رواہ مسلم.

2- رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی .

۴- روژیگرتنا ہہیفا رہمہ زانی ئہ گہری غہفراندنا گونہہایہ : ژ کیسی بابی ہورہیرہی خودی ژئی رازی بت گوت : پیغہمبہری خودی دگوت: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)¹

ٹانکو : ہر پیچ نفیژ و خودبہ بو خودبی و رہمہ زان بو رہمہ زانی غہفراندن بو وان گونہہیت دناقبہرا وان دا ئہ گہر خو ژ گونہہیت مہزن بدہتہ پاش.

ژ کیسی بابی ہورہیرہی خودی ژئی رازی بت گوت : پیغہمبہری خودی گوت: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)²

ٹانکو : ئہوی رہمہ زانی ب روژی بیت باوہری ب فہرز بوونا وی ہہبیت و ژبہر خیرا وی دی -خودی - بو وی گونہہیت ژبہری ہنگی غہفرینیت.

¹ - [رواہ مسلم و غیرہ]
² - [متفق علیہ].

۵- ہہیفا رہمہ زانی شہفا خودان وپروز یا تیدا ئہوا عیبادہ تی وی ب
 خیرتر ژ عیبادہ تی ہزار ہہیفا ئہویت ئہف شہفہ تیدا نہبت : (إِنَّا
 أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
 مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾¹

ٹانکو : مه - قورٹان - یا ئینایہ خار دشہفا خودان قہدر دا - کو
 دکہفیتہ د ہہیفا رہمہ زانی دا - وتوچ دزانی - ئہی موحممہد - کا
 نی شہفا قہنج و ب بہا چی یہ ؟، شہفا ب بہا شہفہ کا پیروزہ ،
 خیرا وی ژ یا ہزار ہہیفا ئہف شہفہ تیدا نہبت چیتہرہ.

6. ہہیفا رہمہ زانی نفیژیت تہراویحا ییت تیدا ، کو کرنا وان
 ئہ گہری غہفراندنا گونہہیت بہری ہنگی ہہمیانہ - ییت بچویک
 - ژ کیسی بابی ہورہیرہی خودی ژئی رازی بت گوت : پیغہمبہری
 خودی گوت: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِهِ)²

ٹانکو : ئہوی نفیژیت تہراویحال رہمہ زانی بکہت ب باوہری و ژبہر
 خیرا وی دی - خودی - بووی گونہہیت ژبہری ہنگی غہفرینیت.

¹ - [القدر : 1-3].

² - [متفق علیہ].

وہہروہسا کرنا وان و نفیڑا عہیشا ب جہماعہت ل گہل ئیمامی
 بہرامبہری خیرا عیبادہتی شہقی ہہمی یہ : ژ کیسی باپی ذہری
 گوت : پیغہمبہری خودی گوت: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ
 حَتَّى يَنْصَرِفَ ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)¹

ٹانکو : ہندی زہلامہ ٹہ گہر ل گہل ئیمامی نفیڑیت تہراویحا کرن و
 ل گہل نفیڑا عہیشا ہہ تا خلاس ببیت دی ہیتہ نفیسین بو وی ب
 عیبادہتی شہقی ہہمی .



¹ - صحیح الجامع (1615).

جاوا خو ئاماده بکهین بو ره مه زانی

۱- دوعا کرن ژ خودایێ بلند ب ههر دوعایه کا تو دزانی وه کی :
(اللهم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلاً).

۲- ئینانا چهند ئنیه ته کا بهری هاتنا ره مه زانی ، چونکی دحه دیسه کا
قودسی دا یا هاتی، خودی دیژیت: (إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ
حَسَنَةً ، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَفْعَلْ)¹

ئانکو : ئه گهر عه بده کی من ئنیه تا خو ئینا کو کاره کی چاک بکهت ،
فیجا ئه ز دی بو وی بخیر نقیسم خو هه که نه کهت زی . وژوان
ئنیه تین کو پیته یه مروف بینت ژ بهری هاتنا هه یفا ره مه زانی:

أ. ئنیه تا (ختم کرنا قورئانی) ژ جاره کی پتر دگهل تیگه هشتنا رامانا
په یقیین قورئانی.

ب. ئنیه تا ته وه به کرنه کا ژ دل وراست ژ هه می گونه هیین بهری نوکه
ئه نجامداین.

¹ [رواه مسلم] .

ج. ئنیه تا هندی کو ئه ف هھیفه ببیت دهست پیکه ک بو کرنا خیرا وئه نجامدانا کاری باش و بهرده و امی پی دان ب پشته فانیا خودایی بلند هه تا روژا ئه م دزقرینه لایی وی.

د. ئنیه تا دهستکه فتنا پترترین چاکی و باشیا دئی هھیفی دا چونکی پاداشت و خیریت فی هھیفی چهند جارا زیده تره ژیت دی.

ه. ئنیه تا چاک کرنا ره وشت و رهفتارین مروفی، و دیار کرنا سه ره ده ریه کا باش و نه رم ل گه ل خه لکی و خیزانا مروفی.

و. ئنیه تا کارکرنی بو فی دینی پیروز و به لاف کرنا وی دناف خه لکیدا ب مفا و هرگرتن ژ فی هھیفی چونکی ئیمان خه لکی دئی هھیفی دا زیده دبیت.

ز. ئنیه تا دانانا بهرنامه یه کی پری په رستن (عیبادهت) و زکر کرن، و دهست پیفه گرتن و دهست ژئی نه بهردان و پشتگوه فه هافیتن.

3. خاندنا هنده ک پهرتوکین دینی ل سه ر هھیفا ره مه زانی ژبه ری هاتنا ره مه زانی ب تایبه تی ئه و پهرتوکین به حسی قه دروقیمهت وئه حکامین هھیفا ره مه زانی دکهن، دا کو ئه م ب چاف رونی ئاماده بین بو پیشه وازی کرنا فی هھیفی ب ئیمان ه کا بهرز فه.

4. نه خشه وپلانهك بو خو ئاماده کرنی دئی هه یفی دا:

أ. هه روژ گوهدارییا (CD) سیدییه کی بکه کو به حسا فزل و بهایی هه یفا رهمه زانی دکهت ، ل مال بت یان دسیاری دا بت یان ل دوکانی یان هه ر جهه کی دی ... هتد.

ب. خاندنا ته فسیرا وان ئایه تا یین کو به حسی روژین هه یفا رهمه زانی دکهن.

ج. روینشتنهك دگه ل هندهك هه فال و برادهرا بو هندی کا چاوا خو حازر و ئاماده بکهین و گوتن و دیارکنا هندهك رینمایا بو هه یفا رهمه زانی دا کو ئهم رهمه زانه کا وهسا ببورینین هه روه کی خودایی بلند ژ مه دقیت ، وئه ف روینشتنه دی هاندهره کی باش بت بو مروفی دئی هه یفی دا.

د. دابین کرنا هندهك پارا بو فی هه یفی بو کرنا کاری خیری وه کی : صهدهقه جاریه ، بو ئافا کرنا مزگه فته کی یان چاندنا هندهك دارا .. یان به شداریکرن د نان دان وفتاره کرینی بو روژیگرا دئی هه یفی دا .. یان کرینا هندهك په رتوک و نامیلکین ب مفا و به لاف کرنا وان ل سه ر خه لکی دا .. یان هاریکاریکرنا هه ژار و خودان پیتفییت تایبهت.

5. ئاماده بوون ل وان دهرس و وانين دهينه خاندن ل مزگه قتي كو
ب هه لكه قتا ره مه زاني دهينه پيشكيشكرن.

6. ئاماده كاري ل مال وه كي خيزان وزاروكين خو وههروه سا
دهوروبه رين خو بو هندی كو ئاماده بن بو قئ هه يفا پيروز ب ريكا
ئاخفتن وشيرهت كرن و گه نكه شه كرن.



پیناسہ وحوکمئی روژین ھے یقا رھمہ زانی

پیناسا روژئی دزمانی عہ ربی دا: خو گرتنه (الامساك) ھ.

پیناسا روژئی دشہریعہ تی دا : خو گرتنه ژ خارن وڤہ خارن وچوونا
نقینا خیزانی ، دگہل ئینانا ئنیہ تی ژ دہرکہ تنا سپیدا دروست ھے تا
ئاڤا بوونا روژی.

وحوکمئی روژین ھے یقا رھمہ زانی : روژیا ھے یقا رھمہ زانی روکنہ کہ ژ
روکنیت ئیسلامی ، وڤہرزه کہ ژ ڤہرزین خودای بلند وبہ لگہ ل
سہر ھہنه ژ قورئان وسونہ تی وکودہنگیا موسلمانا :

خودای بلند دیژیت: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)¹

و رامانا: کتب ، ئانکو : یا ڤہرز بووی .

و ھہروہسا خودای بلند دیژیت : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ).²

ئہ ڤہ ئہ مرہ وئہ مرژی بو واجب بینئ یہ (والامر للوجوب) .

¹ [البقرة : 183].

² - [البقرة : 185] .

ویپغہ مہبری خودی سلاف لئین دگہ لہک حہ دیسان دا بہ حسی
 روژی پی کری ژ وان دەمی دیژت : ئیسلام یا ہاتی ئا فاکرن لسہر
 پیچ ستوینا (رکن) وژوان ستوینا ژی بہ حسی روژیا ہہیفا رہمہ زانی
 پی کری.

و ہہروہسا کو دەنگیا (ئیجماعا) موسلمانا ہہمی لسہر واجب
 بونا ہہیفا رہمہ زانی یہ ، و ہہروہسا کودہنگن لسہر ہندی کو
 ہہچی ئینکارا وی بکہت کافرہ¹.

وبو زانین : روژیا ہہیفا رہمہ زانی یا ہاتی فہرزکرنی ل سالا دووی
 ہجری .



¹ [صحیح فقہ السنۃ ، ابو مالک کمال بن السید].

تہ حکامین روژیگرتنی

روژین ہہیفا رہمہ زانی دوو روکن ییت ہہین ، ہہر کہسہ کی تہ ف ہہردوو روکنہ دروژی یا وی دا نہ بن ، روژیا وی یا بہ طالہ ونہ دروستہ ، تہ ف دوو روکنہ ژ ی پیک ہاتینہ ژ:

۱- تئیت ئینان : ژہر گوتنا پیغہ مہری خودی: (انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى)¹.

ٹانکو : ہہر کارہ کی ہہ بیت ل دیف تئیتا نہ ، وہہر مروفہ ک دی خودی ل دویف تئیتا وی دہ تی.

وتئیت ئینان ژ ی ب دلی یہ د ہمی شہ قین رہمہ زانی دا وہہتا بہری بانگی سپیدی بدہت ، ودقیت مہرہما وی ب فی روژی تئی رازی بوونا خودای مہزن بت ودویر بت ژ ریائی وسومعہ تی . ژہر گوتنا پیغہ مہری خودی: (من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له)²

ٹانکو: تہوی تئیتا خو نہ ئینیت بہری سپیدی ، روژی بو وی نینہ.

وشیخ (محمد بن صالح العثیمین)، خودی دلوفانی پی بہت دیژیت: (ہندہ ک ژ زانایا دیژن ہہر کہسہ کی ل شہ فائی کی رہمہ زانی

¹ [متفق علیہ]

2- [رواہ ابی داود والترمذی والنسائی ، وصححہ الالبانی].

ئنيهت ئينا ئهف ئنيهت به سي وي يه بو هه يقا ره مه زاني هه مي ،
 ب مهرجه كي هه كه هه مي روژيا بگرت وچ تشت نه بيته ئه گه ري
 برينا روژيا وي ، به لي هه كه روژه كي ب ئه گه ري عوزره كي روژيا
 خو خار ، ده مي دوو باره دهست ب روژيا دكهت دقيت دووباره
 ئنيهتا خو بينيت)¹.

٢- خو دويركرن ژ وان تشتا بين روژي پي دكه فیت ژ دهركه فتنا
 سپيدا دروست هه تا روژ ئافا دبیت . ژبه رگوتنا خودايي بلندده مي
 ديژيت : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)²

ئانكو : وبخون وظة خون حه تا روناهيا دورست ل عه سمانى بو
 هه وه ئاشكه را ببت ، و ذ تارييا شه ظي جودا ببت ، ئاشي خو ذ وان
 تشتان بين روذي ئي دكه ظت بدهنه ئاش ، وحه تا شه ظ ب
 ئاخابوونا روذي دئيت هوين روذيي تمام بكه ن.



1 [كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف ابن عثيمين: ص 8].

2[البقرة : 187].

نہو تشتین روژی پی دکھن

۱- خارن وفہ خارن : ھەر کہسہ کئی بی کو ژیرا وی بچت ئانکو ب
 ھہزا خو تشتہ کئی بخوت یان فہخوت روژیا وی دی بہتال بت و
 دفتیت پشتی رھمہ زانی قہزا بکھت ، بہلی ئہ گہر کہسہ کئی ژیرا وی
 چوو یان ژی ب خہلہتی فہ یان زوری لی ہاتہ کرن کو تشتہ کئی
 بخوت یان فہخوت روژیا وی دروستہ قہزا ناکھت وکھ فارہت ژی
 بو نینہ . ژبہر گوتنا پیغہ مبهری خودی سلاف لیین دەمی دیژیتیت:
 (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسِيَانَ، وَمَا أُسْتُكْرِهُوا
 عَلَيْهِ)¹.

ئانکو : ھندی خودایی بلندہ یا راکری ل سہر ئوممہتا من خہلہتی
 وژیرکرن وزورداری لیکن.

۲- دل راکرن : ھەر کہسہ کئی دلی خو راکھت روژیا وی دی کہفیت
 ، ودفتیت روژیہ کئی پیشقہ بگریت ، بہلی ئہوی دلی وی پی وی
 رابیت روژیا وی یا دروستہ و چ ل سہر وی نینہ ، ژبہر گوتنا
 پیغہ مبهری خودی سلاف لیین : (مَنْ دَرَعَهُ الْقِيءُ وَهُوَ صَائِمٌ
 فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقِضْ)²

1 [رواه ابن ماجه وصححه الالباني]

2 [رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الالباني].

۳- جیماع: چوونا نفینا خیزانی ب روژ روژی پی دکه قیت ، دقیت وی روژی قهزا بکته ، وکه فاره تی ژی بدهت ، نهوژی نه قه نه لدویف ته رتییی :

أ. نازاد کرنا عه بده کی.

ب. روژیگرتنا دوو هه یفا (60) روژا لسه ر ئیک وی قه قه تیان.

ج. دانا خارنی بو (60) هه ژارا.

۴- حهیز (عادین ژنکا) وچلکین زاروک بوونی : ژبه ر گوتنا پیغه مبه ری خودی سلاف لیبن : (أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)¹

ئانکو : ما نه هه که ژنک که قته دحه یزا نه نفیژا دکته ونه روژییا دگریت ؟ . وئهوا د چلکا ژی دا حوکمی وی وه کی ئهوا د حه یزا دا یه .

۵- شرنقییت (مغذی): ئه و شرنقییت جهی زادی دگرن وه کی سیلانی روژی پی دکه قیت چونکی جهی خارنی و قه خارنی دگرن.

1 [رواه البخاري].

6- دهستپهرین (الاستمناء) : ئەوژی ئەقەیه : کەسەك ئاڤا خو ئەوا دێژنی (مەنی) ب دەستی خو بینت خاری ب هشیاری ئانکو نه نقتی بت . ئەقەژی ل دیڤ بوچوونا دروست . ژبەر گوتنا خودی ئەوا پیغەمبەری خودی سلاف لیبن قەدگوهیزت : ((يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي))¹.

ئانکو : خودای بێند بەحسی روژیگری دکەت دێژیت : ئەو زادی خو وقەخارن خو وشەهوەتا خو دەیلت ژبەر من دا ئەز ژێ رازی بێم.

7- دەرکەفتن ژ ئیسلامی : (الردة): روژی پێ بەطال دبت ، ئەگەر بزڤرت ناف دینی دا قە ژی .



1 [رواه البخاري] .

حوکمی روژییا نافرہتا دووگیان وشیردہر

ئو ژنکا دووگیان بت یا شیری بدہتہ زاروکی خو ئہ گہر شیان ھہ بن ل سہر روژی گرتئی واجبہ ئو ب روژی بن ، و ئہ گہر ہات و روژی گرتئی مہترسی وزیان ھہ بوو بو وان ، یان بو زاروکی ، ھنگی دروستہ بو وان ئو ب روژی نہ بن . فیجا ھہر گافہ کا ژبہر مہترسیا گیانی خو یان ژبہر زاروکی خو روژییہک خارن ، سہ بارہت ب گرتن وکہ فارہتا روژییا وان سی بوچوون یین ھہین ل ناف زانایان دا:

۱- ھندہک دیژن بہس دی کہ فارہتی دہت و روژی دووبارہ نا گرنہفہ : ب بہ لگہ یا فان ھہ دیسا ، عبداللہ کوری عباس (خودی ژئی رازی بت) دیژیت : (إذا خافت الحامل علی نفسھا والمرضع علی ولھا فی رمضان، قال: یفطران ویطعمان مکان کل یوم مسکیناً ولا یقضیان صوماً) ¹.

ئانکو : ھہر گافہ کا ژنکا دووگیان ترسیا ژ نہ فسا خو ، و ژنکا شیردہر ترسیا ژ زاروکی خو دھہیفا رھمہ زانی دا ، ھنگی دی روژییا خو شکینن ، ودی خارنی دہنہ ھہ ژارا پیش ھہمی روژاقہ - ئانکو پیش ھہر روژہ کی فہ دفتیت فہ قیرہ کی تیر بکھن - روژی قہزا کرن بو وان نینہ.

1 [صحیح علی شرط مسلم ، (الارواء : 19/4)]

وعبداللہ کوری عباس و عبداللہ کوری عمر دیپژن : (الحامل والمرضع تظفر ولا تقضی)¹.

ٹانکو : ژنکا دووگیان وشیردہر ئہ گہر مہ ترسی ھہ بوو دی روژیا خو شکینن وقہزا ناکنہ ، (بہس دی خارنی دہن)

۲- و ہندہک ژ زانایا دیپژن بہس قہزا کرن یا لسہر وان : دیپژن چونکی حوکمی فان جورہ ژنکا وکی حوکمی مروئی نہ خوشہ . خودای مہزن دیپژت : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ)²

ٹانکو : ھہر کہسہ کی نہ خوش بوو یان ل سہ فہری بوو بو وی ھہیہ روژیا خو بشکینیت وپاشی پشتی رھمہ زانی قہزا بکہت ، دیپژن : خودای بلند دئی ئایہ تا پیروزدا ب تئی بہ حسئی قہزا کرنا روژی پی کری بہ حسا دانا خارنی نہ کری یہ³ .

۳- و ہندہک ژ زانایا دیپژن : ئہ گہر ژ ترسا زاروکی بیت روژیا خو بشکینیت دقیت دگہل قہزا کرنی خارنی ژی بدہت ، بہ لی ھہ کہ ژبہر ترسا خوہ بت تہنھا دی روژی قہزا کہت .

[مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین : 19 / 164] . تیبینی : ژنک کارب کیش ژفان بوچوونا بکہت دروستہ ان شاء اللہ .

1 [صححه الالباني في الارواء الغليل 20/4].

2 [البقرة : 185] .

3 [فتاوی اللجنة الدائمة : 10/220].

ئەو تەشتین کو دروست وەه لالەن بو مروفتی روژیگر

۱- سەر شوشتن بو پاقرژی و هینکاتی . هەندەك ژ صحابیین پیغەمبەری خودی دیژن : پیغەمبەری خودی سلاف لیبن ئاف ب سەری خو دا دکر ل وی دەمی کو ب روژی ژبەر تێهناستی یان گەرمی¹.

۲- ئاف ل دەف و دەفنا وەردان (المضمضة والاستنشاق) . بەلی بی کو زیده ب هەلکیشیت ئانکو : بشیوهیه کی وەسا ئاف نەچت دزکی مروفتی دا .

۳- حیجامه کرن : (الحجامة) : هەندەك ژ زانایا دیژن : دروسته مروفت خوینی ژ خو بەر دەت ل دەمی ب روژی ، ئەگەر نەبیتە ئەگەری زیان و لاوازی بو وی کەسی . ب بەلگەیا فان حەدیسە . عبدالله کوری عباس (خودی ژێ رازی بت) دیژت : ﷺ : (احتجم وهو صائم)²

ئانکو : پیغەمبەری ﷺ خوین ژ خو بەردا و ئەوی ب روژی بوو .

و سەبارەت ب حەدیسە : (افطر الحاجم والمحجوم)³ ئانکو : ئەو کەسی حیجامی جیکەت و ئەو کەسی بو دەیتە جیکرن

1 [صحيح سنن ابي داود : 2072].

2 [الخرجه البخاري : 1939].

3. [الارواء : 931].

روژیا هه ردووکا دشکیت ، شیخ ئه لبانی - خودی دلوقانی پی
 ببهت - دیژیت : ئهف حه دیسه وحوکمی وی منسوخته
 ب وی حه دیسا - ابو سعید الخدری - فه گوهاستی و دیژیت :
 (رخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم)¹.

ئانکو : پیغه مبهری ﷺ ریک یا دای ب حیجامة کرنی بو مروئی ب
 روژی . وهه ندهک ژ زانایان دیژن : خوین به خشین بو که سین
 پیئتی ب خوینی دروسته ئه گهر مه ترسیا لاوازی و زیانی بو مروئی
 خوین به خش نه بت².

۴- ماچ کرنا خیزانی ودهست دانا وی ب مه رجه کی ئه گهر بشیته
 خو ، وههروه سا نفستنا وان ل دهف ئیک ، ژبه ر گوتنا دهیکا مه
 عائیشایی - خودی ژی رازی بیت - دیژیت : پیغه مبهری خودی
 ﷺ ژنکیت خو ماچی دکرن وئو پی ب روژی ، و لدهف وان
 دنفست وئو پی ب روژی ، به لی ئه و ژ هه وه هه میا پتر دشیا خو
 . ئانکو: ب ئه گهری ماچیکرنی ول دهف ئیک نفستی دشیا خو کو
 جیماعی نه کهت یان ئافا وی نه ئیته خار . فیچا ژبه ر فی چه ندی بو
 پی گهنج بت نه یا باشه ئه و فی چه ندی بکهت.

1 [الارواء : 74/4].

2 [الفقه المیسر وادلته : 197].

۵- ئە گەر که سهك ب شهف بهری بانگی سپیدی توشی جه نابه تی بوو، ونه گه هشت سهری خو بشوت ئیکسه ر بانگی سپیدی دا بو فی که سی دروسته پشتی بانگی سپیدی سهری خو بشوت ، وروژیا وی ژی دروسته ، وههروه سا هه که که سهکی ب روژ دخه ودا توشی جه نابه تی بوو ، روژیا وی دروسته به لی دقیت ب لهز سهری خو بشوت ژ جه نابه تی .

۶- ب کارئینانا سیواکی : دروسته بو مروفی روژیگر سیواکی بکارینت ، چونکی چ به لگه نه هاتینه نه هیی ژ کارئینانا سیواکی بکه ن ل ده می روژیی دا .

۷- تام کرنا خاری : به لی ب مه رجه کی نه چیته خاری .

۸- دانانا شرنقی : ب مه رجه کی نه (مغذي بت) چونکی هیژ وشیا نا دده ته مروفی وجهی خاری دگرن .

۹- بکارئینانا معجونا ددانا .

۱۰- بکارئینانا قه تراگوھی وچافی ودفنی .

۱۱- بکارئینانا بهنیت خوش وه کی: گولاف و بخوری.

۱۲- بکارئینانا به خاخی بو وان که سین ته نگه نه فه سی هه ی .

۱۳- بکارئینانا دوهنی بو پرچی وخه نا کرنا پرچی .

۱۴- بکارئینانا چه بکییت مه نعا خوینا چه یزی (بهری ب روژی بت

نہ دوهختی روژیی دا): ب مہرجہ کی ہہ کہ زیان نہبت بو ژنکی،
ہہ کہ زیان ہہبت نہدروستہ¹ .

۱۵- بکارئینانا کلی چافی : دەیکا مہ عائیشا دیبژیت : ((اکتحل رسول
اللہ ﷺ: وهو صائم))²

۱۶- چونا خارا تفا دەفی مروفی : چونکی مروف نہشیت ہمی
گافہ کی تفا دەفی خوبہافیژیت دەفی خو حشک بکہت ، بہلی ہہ کہ
بہلغہم بت چ گافا ہاتہ دەفی دا نابیت بہیہ خاری ودقیت
بہافیژی³ .

۱۷- بو ژنکا دروستہ ب روژی بن ہہ کہ بہری بانگی سپیدی پاقر
بوون ژ حہیزی - عادی - یان چلکا ، دقیت ٹیکسہر ئنیہتا روژیی
بینن وب روژی بن ، وب لەز سہری خو بشوت ہہ کہ شیا ، ٹہ گہر
نہشیا دروستہ بو وی پشتی بانگی سپیدی ب لەز سہری خو
بشوت ، ونفیژا خو بکہت .

۱۸- روژی ناکہقیت ب ہاتنا خارا خوینی ژ دفنی یان ژ برینی یان
نہزیفی یان ب دہرئینانا ددانی . ودہرمانکرنا برینا .
۱۹- وہہروہسا روژی ناکہقیت ب ہاتنا خارا (مذی و ودی)⁴ .

1 [الفقه المیسر وادلته : 197] .

2 [صحیح سنن ابن ماجہ : 1369] .

3 [مجموع فتاوی ابن باز : 313/15] .

4 [مختصر الفقه الاسلامی للتویجری : 619] .

ئاداب وسوننه تین روژیگرتنی

۱- خارنا پاشیفی: ژبه ر گوتنا پیغه مبه ری خودی ﷺ: ((تسحروا فإن فی السحور برکة))¹.

ئانکو: پاشیفی بخون چونکی خارنا پاشیفی به ره که ته . و دروسته تو خارنی بخوی قیجا چ پچه ک بت یان گه له ک بت وخو هه که فره کا ئافی ژی بت . وده می پاشیفی ژ نیقا شه فی یه هه تا ده رکه تنا سپیدی.

۲- گیروکرنا پاشیفی: چهند درهنگ تر بت باشتره ، ومروف به ردهوام بت ل خارن و فه خارنی هه تا ده می بانگ ددهت ، ومروف گوھی خو نه دت وی بیدعا ل گه له ک مزگه فتا ده یته کرن ده می دیژن: (الامساك) یان (الاحترام)، ئانکو خارنی و فه خارنی بهس کهن ، ئەف تشته بیدعه یه وج ئەصل و ئەساس بو نینه د شه ریه تی پاقری ته مامی ئیسلامی دا.

۳- له ز کرن ل فتاره کرنی: ئانکو ج گا فا روژ ئا فا بوو سووننه ته مروف زوی فتاری بکهت ، ژبه ر گوتنا پیغه مبه ری خودی ﷺ: ((لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر))².

ئانکو: به ردهوام دی خه لک دخیری دابن هندی ئەو له زی ل فتاره کرنی بکهن .

1 [متفق علیه]

2 [متفق علیه]

۴- فتاره کرن لسه روطه با : هه که نه بت لسه ره سپا هه که نه و
ژی ب دهست نه که ت ب ئافی وهه که نه وژی نه بت ب ئنیه تا
فتاره کرنی ب دلی خو بینت .

۵- دوعا کرن ل دهمی فتاری ول دهمی ب روژی : ژبه ر گوتنا
پیغه مبه ری خودی ﷺ : ((ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر
، والامام العادل ، والمظلوم))¹.

ئانکو : سی جورین مروفا دوعایین وان ناهینه زفراندن : روژیگر
هه تا فتاری دکه ت ، وپیشه وای دادپه روهر ، و مروفی زولم وستهم
لی هاتیه کرن . ویا سوننه ت نه فه یه ل دهمی فتاره کرنی مروفا
بیژی ت : ((ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الاجر ان شاء الله))²
ئانکو : تیهناتی چوو ، ودهمار تهر بون پشتی کو هسک بوین ، و (ان
شاء الله) نه جرو وبها وخیر ل دهف خودایی بلنده .

۶- گه لهك صه دهقه کرن ، و خاندنا قورئانی ، و دانا خارنی بو مروفی
روژیگر ، وهه می کارین چاک . ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي
رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ
فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ قَالَ فَرَسُوكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ
جِبْرِيلُ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ))³ .

1 [رواه الترمذي وصححه الالباني]

2 [سنن ابي داود: 2357]

3 [متفق عليه] .

۷- گه لهك كرنا نفيژين شه في (ته راويحا): ب تايبه تي ل دهه كين
 دوماهيا ره مه زاني . ((عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ
 إذا دخل العشر، شد مؤزره ، وأحيا ليله، وأيقظ أهله))¹.
 ۸- عومره كرن : ژبه ر گوتنا پيغه مبهري خودي ﷺ : ((عُمرة في
 رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً))²

۹- گوتنا ((ئه ز ب روژي مه)) هه كه ئيكي خه بهر گوتني : ئه فه ژي
 ژبه ر گوتنا پيغه مبهري خودي ﷺ: ((وإذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا
 يرفث، ولا يضحَب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ
 صائم))³

۱۰- پاراستنا ئه زماني : ژ غه يبهت وئينان و برنا ئاخفتنا وخه بهر
 قه سيٽ كريت گوتن وي به ختي كرن و دره وي ... هتد .



1 متفق عليه

2 [مسلم] .

3 [متفق عليه]

مفا وبھائی روژی و روژیگرتنی

۱- روژی وقورئان مہدہری بو خودانی خو دکہن ل روژا قیامہ تی .
 ہہروہ کی پیغہ مہری خودی ﷺ : دیژت : (الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ
 يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصَّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنْعْتُهُ الطَّعَامَ
 وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنْعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ
 فَشَفَعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ)¹

۲- روژیگران ل روژا قیامہ تی دہرگہ ہہ کی تایبہ تی بہ حہشتی بی ہہی
 کو دیژنی (باب الریان) بہس بو روژیگرایہ . ہہروہ کی پیغہ مہری
 خودی ﷺ : دیژت : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ
 الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ
 الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ،
 فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ)².

۳- روژی پاراستنہ کہ بو مروفی موسلمان ژ ناگری ، ہہروہ کی
 پیغہ مہری خودی ﷺ دیژت : (مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ
 اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)³.

[1] احمد: 6626].

[2] منفق عليه].

[3] أخرجه الترمذي (1624)، وحسنه الالباني].

۴- روژی خودانی خو دہتہ بہحشتی ، ھہروہ کی پیغہمبہری خودی ﷺ دیبڑت : (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ) ، وفي رواية (عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ)¹

۵- مروفتین روزیگر دی گہنہ نہ جری خوبی حساب ، ھہروہ کی پیغہمبہری خودی ﷺ دیبڑت : (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمُ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)²

۶- روژی ھاریکارہ بو کیم کرنا شہوہتا چونا نفینی ، ھہروہ کی پیغہمبہری خودی ﷺ دیبڑت : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)³ .



1 [اخرجه النسائي ، وصححه الالباني].

2 [منفق عليه].

3 [منفق عليه].

قه درو بهایی شه فا قه درئی

بهایی وی : خودایی بلند دیبژیت : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿۴﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۱﴾ .

ئانکو : هندی ئه مین مه قورئان د شه ظا قه نج و ب بها دا ئینایه خواری، کو دکه فته دهه یفا ره مه زانی دا. ﴿۱﴾ وتوض دزانی - ئه ی موحه ممه د- کانی شه ظا قه نج و ب بها ضیه؟ ﴿۲﴾ شه ظا ب بها شه ظه کا ئیرؤزه، خیرا وی ذیا هزاره یظین ئه ظ شه ظه تیدا نبت ضیتره. ﴿۳﴾ هاتنه خواریا ملیاکه تان وجبریلی - سلاظ لی بن- تیدا مشه دبت، ب ئانه هییا خودایی خو ئه و وان فه رمانان دئیننه خواری بین وی بو وی سالی ته قدیر کرین و داین. ﴿۴﴾ ئه وه می ته ناهیه، حه تا دهرکه فتنه ئه لندی ضو خرابی تیدا نین.

فی سوره تا پیروز کومه ک ژ قه درو قیمه تی فی شه فا پیروز بین ب خو فه گرتین :

۱- ہندی خودی تعالیہ قورئان د فی شہ فی دا یا ئینایہ خاری ،
 ہہروہ کی خودای بلندیڈیٹ : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا
 مُنذِرِينَ)¹.

۲- خودای بلندیلہ وبہای فی شہ فی بی بہرز راگرتی ، ب گوتنا :
 (وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) .

۳- ہندی عیباده تی فی شہ فی یہ ب خیرترہ ژ عیباده تی ہزار ہہیفین
 ئەف شہفہ تیدا نہبت .

۴- ہندی مہ لائیکہ تن د فی شہ فی دا دئینہ خاری ب دلوفانی
 وبہرہ کہت وئیمنای .

۵- و ہندی ئیمنای وتہناہی یہ د فی شہ فی بسہر ئەہلی ئیمنای دا
 دہیت .

کیش شہفہ ؟

بی گومان شہفا (لیلة القدر) یا دہیفا رہمہ زانی دا ، ژبہر گوتنا
 خودای بلند: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)².

. دگہل گوتنا وی : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)³
 بہلی دەست نیشان کرنا فی شہ فی - حافظ ابن حجر - دیڈیٹ : و

[1] الدخان : 3

[2] القدر : 1

[3] البقرة : 185 .

زانا ییت ب خیلاف چوین د دهست نیشان کرنا شه فا - لیلۃ القدر - دا خیلافه کا گه له ک مه زن ، ومه زهه بیین وان پتر ژ چل (٤٠) گوتنا یین گه هشتین مه . پاشی ئەف گوتنه گوتن دگهل به لگه یین خودانین وان .

وبارا پتر یین لسهر هندی کویا د دهه کیت دوماهیا ره مه زانی دا ،

ژبه ره هدیسا - ابي سعيد الخدري - کو پیغه مبه ری خودی ﷺ گوت : (... بو خو لی بگه ریپین د دهه کیت دوماهی دا)¹ . وپتیا وان یین ل سهر هندی کویا د شه فین کتین دهه کین دوماهی دا ، ژبه ره گوتنا وی ﷺ : (تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر)² .

ئانکو: لیبگه رن شه فا خودان قه در د شه فین کتین دهه کین دوماهی دا.

وههروه سا پتیا وان یین ل سهر هندی کو شه فا بیست وحه فتی یه وئه فه گوتنا کومه کی یه ژ سه حابیا وئه ف گوتنه یا ته که ز کری (ئوبه یی کوری که عی) ویا لسهر سویند خاری ، ههروه کی د سه حیحا موسلمی دا هاتی³ .

1 [متفق علیه] .

2 [صحیح البخاری (2017)] .

3 [صحیح مسلم (762)] .

وئہز دیپژم : یا بو من دیاردبت کو شہفا خودان قہدر یا ددہہکین دوماہی دا ود کتان دا پتر تہ ٹکید یا لی ہاتی یہ کرن ، ود کتان دا جہی خو دگھوریت ، ونہ یا تایبہ تہ ب شہفا بیست وحہفتی فہ ، وئہوا ہاتی فہ گوهاستن ژ کیسی (ئوبہ پی کوری کہ عبی) کو یا دشہفا بیست وحہفتی دا ئہ فہ دسالہ کی دا وئہ فہ ہندی ناگہینت کو دەست نیشان بکەت دەہمی سالادا ، وبہلگہ ل سہر فی چہندی ئہوہ کو پیغہ مہر ﷺ : پی کہ تی دشہفا خودان قہدر دا ل شہفا بیست و ئیکی ، ہہروہ کی دحہ دیسہ کا (متفق علیہ) دا ہاتی ¹.

فہ شارتنہ شہفا خودان قہدر :

وی گومان شہفا خودان قہدر یا ہاتی فہ شارتنہ دا کو مروف خو ب وہستینیت ب پەرستی فہ دەہمی شہفان دا ، ب ہیشیا ہندی کو ئہو شہفہ شہفا خودان قہدر بت ، وہہر کہسہ کی بقییت بہر وی شہفی بکہفیت دقتی سوپاسیا خودی بکہت و خو قالا بکہت بو پەرستی دقتی ہہیفی ہمی دا ، وئہ فہ یہ ئہو نہینیا کو ژ بہر وی ئہف شہفہ نہ ہاتی دەست نیشان کرن .

چاوا مروفی موسلمان فی شہفی ب دەست خوفہ بینت ؟ : ہہر کہسہ کی ژ فی شہفا پیروز بی بہر بیت ئہو ژ خیری ہمی بی بہر بی ، وکەس ژ خیرا وی بی بہر نابیت ئیلا ئیکی بی بہر ،

[1] [ابو مالک کمال بن السید سالم ص 132 بەرگی 2] .

ژبه ر هندی پیتھی یه ل سهر موسلمانانی یی رژد بیت ل سهر
 په رستنا خودی وئی شه فی زیندی بکته ب باوهری و ژبه ر خیرا وی
 یا مه زن ، و خو گه له ک ب وه ستینت دده هکین دوماهی دا
 چاقلیکرن ب پیغه مبه ری خودی ﷺ ، ژ کیسی عائیشای گوت :
 (کان رسول الله ﷺ یجتهد ما لا یجتهد فی غیرها)¹ .
 ئانکو : پیغه مبه ری خودی ﷺ خو دوه ستاند ب عیاده تی فه ،
 نه وه کی وه ستیانا روژین دی ییت - ژبلی دهکا - .
 ومروف فان شه فا زیندی بکته ، و خو ژ ژنکا دویر بکته وئه هلی
 مالا خو هانده تی بو عیاده تی دفان شه فا دا ، ژ کیسی عائیشای
 گوت : (کان النبی ﷺ اذا دخل العشر ، شد مئزره ، وأحیا لیله ،
 وأیظأ أهله)² .

ئانکو : پیغه مبه ری خودی ﷺ ئه گهر ده هکین دوماهی هاتبان دا
 شه فی زیندی کته ب عیاده تی ودا مالا خو هشیارکته ودا خو ژ
 ژنکیت خو ده ته پاش ودا خو وه ستینت ب عیاده تی فه .

دوعا کرن تیدا :

وسوننه ته گه له ک دوعا دئی شه فی دا بهینه کرن وب تایبه تی وی
 دوعا ژ پیغه مبه ری ﷺ هاتی فه گوهاستن ههروه کی دحه دیسا
 عائیشای دا هاتی گوت : من گوت : ئه ی پیغه مبه ری خودی کا بو

1 [مسلم (1174)].

2 [متفق علیه] .

من بیڑہ ئہ گہر من زانی کیش شہف شہفا خودان قہدرہ ئہ ز بو خو
 چ بیڑم دئی شہفی دا ؟ گوت : پیغہمبہریؐ خودیؑ گوت
 بیڑہ : (اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني) ¹ .
 ئانکو : یا رہی ئیک ژ ناقتین تہ عہفویہ تو حہش لیبورینی- عہفوی
 - دکہی فیجا من عہفوکہ .

نیشانیت شہفا خودان قہدر :

شہفا خودان قہدر ہندہک نیشان ییت ہین کو پی دہیتہ نیاسین
 ، وژقان نیشانانا کو ہندہک دوی شہفی ب خودا یہ ، وہ کی :

۱- سپیدہہییا شہفا وی : روژی تیشک نینہ ، و وہ کی طہستی یہ :
 پیغہمبہریؐ خودیؑ دیڑت : (صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس
 لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع)²

۲- شہفہکا خوشہ نہ یا گہرمہ ونہیا سارہ : پیغہمبہریؐ خودیؑ
 دیڑت : (ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح
 الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء).³

1 [رواه الترمذي ، وصححه الالباني].

2 [رواه احمد ، وصححه الالباني].

3 [صحيح الجامع (5475)].

۳- چنڈبیت باران ژی ھہبت : پیغہ مبهری خودی ﷺ دیئرت :
(أريت ليلة القدر ثم انسيتها وأراني صباحها أسجد في ماء وطين)¹.

۴- دوی شہ فی دا ئارامی و بیہن فرہی و خوشی یا ھہی چنکی
مہلائیکہت ژ عہسمانا دھینہ خاری ، فیجا مروف ھہست ب
خوشیا دلی دکہت و ھہروہسا دل فرہہیہ کی و خوشیا عیبادہتی دفی
شہ فی دا پتر ژ شہ فی ن دی .



1 [متفق علیہ].

ئِیَعْتَكَا فِی

۱- پیناسا ئیعتکافی د شه ریه تی دا : مانا مروی موسلمان (میز) د مزگه فتی فه بو نه جامدانا عیباده تی بو خودایی بلند.

۲- حوکمی ئیعتکافی: سوننه ته ، وخیره کا گه له ك مه زنه .
وسوننه تبوونا وی یا جیگیر بووی ب قورئان ، وسوننه ت ، وکو دهنگیا موسلمانا .

۳- مه رجین ئیعتکافی :

أ- دفتیت مروی موعته کف - ئه وی ئیعتکافی دکه ت - موسلمان بت مومه یز بت عاقل بت : چونکی ئیعتکاف ژ مروی کافر و ودین (بی عه قل) و زاروی نه مومه یز ناهیته وه رگرتن ، به لی بالغ بوون ونیری نه مه رجن ، فیجا دروسته مروی نه بالغ هه که مومه یز بت یان ژی یا می ئیعتکافی بکه ت.

ب- ئیه ت : دفتیت مروی موعته کف ئیه ت هه بت ، کو ئه فه عیباده ته که وخو نیزیکنه که بو خودایی بلند.

ج- دفتیت ئیعتکاف دمزگه فتی فه بت . ژ بهر گوتنا خودایی بلند ده می دیبیت : (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)¹ .

1 [البقرة : 187] .

د- دقیت ئه و مزگه فتا مروف ئیعتکافی تیدا دکهت نقیژین جماعت ل وی مزگه فتی بهینه کرن، دا کو نقیژین خو بین فهرز بکهت چونکی نه دروسته نقیژین فهرز بهیلت ژبه ر ئیعتکافی.

ه- طه هارهت ژ بی دهست نقیژیا مه زن : چونکی ئیعتکافا مروفی ب جه نابهت و ژنکا دحه یز و چلکا دا نه دروسته ، چونکی نه دروسته ئه و بمینه دمزگه فتی دا .

۴- ئه و تشتین کو دروستن بو موخته کفی بکهت :

أ- چونوا ژ دهرقه ی مزگه فتی بو پیتقیه کی ، وه کی دهست نقیژ گرتی و سه رشویشتی .

ب- خارن و فقه خارن و نقستن . به لی دقیت پاقریا مزگه فتی بهیته راگرتن ونه هیته بیس کرن .

ج- ئاخفتنا دگه ل خه لکی ، و پیسیارکرن ژ حالی وان ، و ئاخفتنا ب مفا ، به لی هه که یا بی مفا ویا نه پیتقی بت نه دروسته .
د- دروسته کهس و کارین وی وهه فالین وی سه ره دانا وی بکهن و چه نده کی دگه ل وان باخفیت ، و دروسته دگه ل وان دهرکه فیت بو خاترخاستنی .

۵- ئەو تشتین ئیعتکافی بہ طال دکەن :

أ- دەرکەفتن ژ مزگەفتی بی کو پیتفی بت وعەمدەن وخو ھە ھە کە کیم ژ ی بت ، چونکی مانا ل مزگەفتی روکنە کە ژ روکنیت ئیعتکافی.

ب- جیماع : نەدروستە مروف بجیتە نفینا خیزانا خو ل دەمی ئیعتکافی فئجا فەرق نینە شەف بت یان روژ و ل مزگەفتی بت یان ژدەر فە ی مزگەفتی و بریکا ژنکی بت یان ئینانا خارا ئافی ب دەستی ژ بەر گوتنا خودایێ بلند دەمی دیئزیت: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)¹.

ج- نەمانا عاقلی : ئیعتکاف ب نەمانا عاقلی وسەخوشیی پویچ و بە طال دبیت .

د- حەیز و چلک : ئەو ژنکا بکە فیتە دحەیز و چلکادا دی ئیعتکافا وی بە طال بت . چونکی نەدروستە ئەو ژنکا بکە فیتە دحەیز و چلکادا بمینتە ل مزگەفتی .

ه- ژدینی دەرکەفتن - الردە - چونکی دژی عیبادەتی یە ، ئانکو ئەو کەسی د ئیعتکافی فە ھە کە تشتە ک گوت یان تشتە ک کر کو پێ کافر ببت ھنگی ئیعتکافا وی یا بە طالە ، ژ بەر گوتنا خودایێ بلند دەمی دیئزیت: (لَيْسَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)².

1 [البقرة : 187].

2 [الزمر : 65].

٦- ٺه و تشتین سوننهت بو مروئی موعته کف :

ٺیعتکاف عیبادهته که مروف بتی دگهل خودایی خو دمینت ،
 وپه یوه ندیین خو دگهل خه لکی فه دبیریت ، فیجا سوننهته بو مروئی
 موعته کف خو قالا وئی کلابکهت بو عیبادهتی وه کی نفیژ و زکری
 خودی ودوعا ولاقلافا و خاندنا قورئانا پیروز ولی زفرین ل خودایی
 بلندوگه له که ئیسغفار کرن و عیبادهتین وه کی فان ئه وین کو مروئی
 پی نیژیکی خودایی بلنددکه ن.



زہ کاتا فتری

زہ کاتا فتری ل دیف سوننہ تا پیغہ مبهری ﷺ دچہند خالہ کا دا :
 ا- حوکمی وی : زہ کاتا فتری فہرزہ ، ل سہر ھہر مروفہ کئی
 موسلمان ، دھہ یفا رہمہ زانی دا ، ژبہر حہ دیسا (عبداللہ کوری
 عومہری) خودی ژوان رازی بت دہمی دیژت : (أن رسول الله ﷺ
 فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين)¹ .
 ٹانکو : پیغہ مبهری خودی ﷺ یا فہرز کری زہ کاتا فتری ل ھے یفا
 رہمہ زانی ل سہر ھہر نہ فسہ کئی ژ موسلمانا .

ب- حکمہت ژ فہرز کرنا وی چی یہ : ھاریکاری کرنا ھہ ژاریہ ، دا کو
 بی پیٹی بن ژ پسار کرنی د روژا چہ ژنی دا ، وکھ یف خوش کرنا وانہ
 ژبہر کو دئی روژی دا موسلمان کہ یف خوش دبن ب ھاتنا چہ ژنی
 ، وپاقر کرنہ کہ بو مروفی روژیگر ژ وان گوتن وکریاریت بی مفا وی
 کرین دھہ یفا رہمہ زانی دا . ٹانکو:
 ۱- پاقریہ بو روژیگری .

۲- ودانا خارنی وتیڑ کرنہ کہ بو ھہ ژارا . ھہروہ کی (عبداللہ کوری
 عہباسی)، دیژت : (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم
 من اللغو والرفث وطعمة للمساكين)²

[1] متفق عليه.

[2] رواه ابو داود وحسنه الالباني .

ئانکو : پیغه مبهری خودی ﷺ زه کاتا فتری فهرز کر پاقری بو روژیگری و خارنه ک بو فه قیرا .

ج-ل سهر کی فهرزه : زه کاتا فتری فهرزه ل سهر ههر مروقه کی موسلمان چ پی مهزن بت یان بچیک بت ، وچ عهبد بت یان ئازاد (حر) بت ، وچ ژن بت یان زهلام بت ، ژبهر گوتنا (عبدالله کوری عومهری) خودی ژوان رازی بت ، دییژت : (فرض رسول الله ﷺ زکاة الفطر... علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین) ¹ .

د- مه رجین وی : زه کاتا فتری دوو مه رج- شهرت- یین ههین : ۱- ئیسلام : ئانکو ئه وی زه کاتا فتری ددهت یان پیشقه بیته دان دقیت موسلمان بت .

۲- قویتی زیده : ئانکو ئه وی زه کاتا فتری ددهت دقیت هند قویت هه بیت زیده تر ژ قویتی خو وعه یالی خو وهه وجهه ییت خو ییت پیتهی ل شهفا چه ژنی و روژا وی .

قیجا ئه وی ئهف ههردوو شهرته ل دهف ههبن ، دقیت زه کاتا فتری پیش خو وئه وان که سین نه فه قا (مصره فا) وان ژی ل سهر وی فهرزه ئه و بدهت .

1 [صحيح البخاري ومسلم].

ه . دی ژ چ هه یته دان ودی چهند هه یته دان : یا فهرز دانا زه کاتا فتری دا صاعه که ژ وی قویتی بارا پتر ژ خه لکی وی ده فتری دخوت ، چ گهنم بت یان جهه بت یان قه سپ یان میوژ یان که شک یان برنج یان سافار یان ههر قویته کی دی هه بت ، ژ بهر گوتنا (ئه بو سه عیدی خودری) خودی ژ ی رازی بت دیژت : (کنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب) ¹ .

ئانکو : مه زه کاتا فتری ده رتییخست صاعه ک ژ گهنمی یان صاعه ک ژ جهی یان صاعه ک ژ قه سپا یان صاعه ک ژ که شکا یان صاعه ک ژ میوژا .

وهه صاعه ک ب پیفان : چار کولمیت مروقه کی نافنجینه ، وب کیشان دوو کیلو ونیفن ب زیده هی .

ود هنده ک حه دیسا دا یا هاتی گهنم نیف صاع ئانکو دوو کولمیت مروقه کی نافنجی .

ونا چیبیت پیش قویتی فه پاره بهینه دان ، چونکی ئه فه خیلافا گوتن وکریارییت پیغه مبهری خودی وصه حابییت وی یه . وچونکی نه یا ب زه حمهت بوو وهختی پیغه مبهری خودی ﷺ گوتی صاعه ک ژ گهنمی یان ژ جهی یان ژ قه سپا یان ژ که شکا یان ژ

1 [متفق علیه] .

میویژا ، ئەو بیژت یان دینارهك یان دوو یان دهه یان بیست دینار ، به لێ وه نه گوت ، فێجا وه ختی وه نه گوت بیت مه عنا یا دروست نینه ، ویا دروست ویا باش هه ر ئەوه یا وی گوئی . و ئەوی بیژت ئەفه بو فه قیری باشتره و چیتره مه عنا ئەو یی دبیژت پیغه مبه ری خودی ﷺ نه دزانی یا باشتر و چیتر کیشکه ، و ئەف چه نه ژ گوننه هی ت مه زنه ئە گه ر ئەم نه بیژین کوفره . وه ره وه سا ئە گه ر ئەفه یا دروست با سه حایی ت وی دا ده ن ودا کهن ، چونکی پاره وه فه قیر ل وی وه ختی ژ ی هه بوون . وه ره وه سا ئەو ژ مه زانا وته قوا وب ره حمتر بوون ، و ئەوان پتر خیر دقییان و دکرن ژ مه ، و پتر ژ خودی ژ ی دترسیان ژ مه . و سه حایی ت وی خودی ژ وان رازی بت چ جارا پاره نه داینه ، و ل گه ل هند ی هنده ك زهنگین ژ ی دناف وان دا هه بوون ، وه کی (عوثماني کوری عه ففانی) وهنده کین دی ، و گه له ك فه قیر ژ ی هه بوون ل وه ختی وان و دپی تفی پاره ی بوون ، ویا ب ساناهی بوو ئەو پاره ی بدهن ، به لێ ئەوان پاره نه دان ، چونکی وان دزانی دانا پارا پیش قوی تی فه یا دروست نینه .

وه ره وه سا زانایی ت خودان ئی ت مه زهه با ژ ی (ئیمامی شافعی و ئیمامی مالک و ئیمامی ئەحمه د) - خودی دلوفانی ب وان ببه ت - دروست نه کری یه پاره پیش قوی تی فه بهی ته دان .

و. وهختی دانا وی : دانا زه کاتا فتری فهرز دبیت ب بهرئقه بوونا روژی ل روژا بهری چه ژنی .

و بو دانا وی سی وهخت ییت ههین :

۱- وهختی ژ هه مییا دروستر و باستر و بخیرتر : ئه وژی دهست پی دکهت ژ ده رکه تنا سپیده هییا چه ژنی هه تا بهری کرنا نقیژا چه ژنی ، ژبه رگوتنا (عبدالله کوری عومه ری) خودی ژ وان رازی بت دبیزت : ((أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة))¹ .

ئانکو : پیغه مبه ری خودی ﷺ ئه مر کر زه کاتا فتری بیته دان بهری ده رکه تنا خه لکی بو نقیژی (ئانکو نقیژا چه ژنی).

و ههروه سا ژبه رگوتنا (عبدالله کوری عه باسی) خودی ژ وان رازی بت دبیزت : ((فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))² .

۲- وهختی دروست : ئه وژی دانا زه کاتا فتری یه بهری چه ژنی ب روژه کی یان دوو روژا ، چونکی هنده ک ژ سه حابییا یا بقی رهنگی دای، وه کی (عبدالله کوری عومه ری).

1 [متفق علیه] .

2 [رواه ابو داود وابن ماجه ، وحسنه الالبانی] .

۳- وهختی نه باش : ئه وژی دانا زه کاتا فتری یه بهری چه ژنی ب پتر ژ دوو روژا ، وه کی هندهک پینج یان دهه یان پازده روژا یان پتر بهری چه ژنی ددهن ، ئه فه یا خه له ته ، چونکی که سه کی ژ سه حابیییا وه نه کری یه .

ز. دی بو کی هیته دان : زه کاتا فتری دهیته دان بو مروقین پیتی ژ (هه ژار و مسکینا) بتنی .



گرتنا شہشکا (شہش روژین ھیفہ شہوالی)

شہریعتی ئەم یین ھانداین بو گرتنا روژیا ژبلی ھیفہ رھمہ زانی ، وہ کی : روژی گرتنا شہشکا (ستہ ایام من شوال) ، سوننہ تہ کو پشتی ھیفہ رھمہ زانی مروف شہش روژیا بگرت – ونہ مہرجہ لدیف ئیک بن – چونکی ئەف شہش روژہ دگھل ھیفہ رھمہ زانی ، دھینہ بہ رامبہری روژین سالہ کی ، ژ کیسی (ابو ایوب الانصاری) ، کو پیغہ مہری خودی ﷺ گوت : ((من صام رمضان ، ثم أتبعه ستا من شوال ، کان کصیام الدھر))¹

. ئانکو : ھەر کەسی رھمہ زانی ب روژی بت ، پاشی پشتی ھنگی شہشا ژ شہوالی ژی بگرت ، ھەر وہ کی ئەو سالی ھیمی ب روژی بووی . وئەفہ وہ کی روژیا سالی یہ ، چونکی خیر ب دھہ خیرانہ ، فیجا رھمہ زان بہ رامبہری دھہ ھیفانہ ، وھەر شہش روژ بہ رامبہر دوو ھیفانہ ، ھەر وہ کی د حەدیسا (ئوبان) ی دا ھاتی ژ پیغہ مہری ﷺ گوت : ((من صام رمضان ، فشہر بعشرۃ أشهر ، وصیام ستہ أيام بعد الفطر ، فذلک تمام صیام السنۃ))²

وگەلەك ژ ئەھلی زانیی ئەف روژی یہ ب (مستحب) دانایہ ژوان ئیمامی شافعی وئەحمەد .

[مسلم]

2 ، [خرجه احمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه الالباني] .

هندك خشته یین ب ساناهی بو ختم کرن وژ بهر کرنا قورئانا پیروز دقئ هه یقئ دا

- أ. بو ژبه رکرنئ : خشته یه کئ ژبه رکرننا قورئانا پیروز ل دیف ده مئ
ژبه رکرننا قورئانی وب پشت بهستن ل سهر شیاننا ژبه رکرننا روژانه بو
ئایه تان ، وبریکه کا ب ساناهی ، بو نمونه :
1. ئه گهر تو دروزه کئ دا ئایه ته کئ ژ قورئانا پیروز ژبه رکه ی ، دئ
قورئانی ژبه رکه ی دماوی (17 سال و 7 هه یف و 9 روژان دا).
 2. ئه گهر دوو ئایه تا ژبه رکه ی دئ بته (8 سال و 9 هه یف و 18 روژ).
 3. ئه گهر (3) ئایه ت بن (5 سال و 10 هه یف و 13 روژ).
 4. ئه گهر (4) ئایه ت بن (4 سال و 4 هه یف و 24 روژ).
 5. ئه گهر (5) ئایه ت بن (3 سال و 6 هه یف و 7 روژ).
 6. ئه گهر (6) ئایه ت بن (2 سال و 11 هه یف و 4 روژ).
 7. ئه گهر (7) ئایه ت بن (2 سال و 6 هه یف و 3 روژ).
 8. ئه گهر (8) ئایه ت بن (2 سال و 2 هه یف و 12 روژ).
 9. ئه گهر (9) ئایه ت بن (1 سال و 11 هه یف و 12 روژ).
 10. ئه گهر (10) ئایه ت بن (1 سال و 9 هه یف و 3 روژ).
 11. ئه گهر (11) ئایه ت بن (1 سال و 7 هه یف و 6 روژ).
 12. ئه گهر (12) ئایه ت بن (1 سال و 5 هه یف و 15 روژ).
 13. ئه گهر (13) ئایه ت بن (1 سال و 4 هه یف و 6 روژ).
 14. ئه گهر (14) ئایه ت بن (1 سال و 3 هه یف و 0 روژ).

15. ئه گهر (15) ئایهت بن (1 سال 2 ھه یف 1 روژ).
16. ئه گهر (16) ئایهت بن (1 سال 1 ھه یف 6 روژ).
17. ئه گهر (17) ئایهت بن (1 سال 0 ھه یف 10 روژ).
18. ئه گهر (18) ئایهت بن (0 سال 11 ھه یف 19 روژ).
19. ئه گهر (19) ئایهت بن (0 سال 11 ھه یف 1 روژ).
20. ئه گهر (20) ئایهت بن (0 سال 10 ھه یف 16 روژ).
21. ئه گهر ھەر روژ تو لاپەرە کێ ژبەرکە ی دی بیتە
- (1 سال 8 ھه یف 12 روژ) دا دی تمام بیت .
22. ئه گهر ھەر روژ پەرە کێ ژبەرکە ی دی بیتە
- (0 سال 10 ھه یف 6 روژ) دا دی تمام بیت. وژیرنە کە ھەر بیتە کا تو
- دیژی دخواندنێ دا دی بوته خیرەك ھیتە نقیسن ، وھەر خیرەك
- ب (10) خیرایە ل دەف خودایی بلند.

بو نمونە : تو بیژی : (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) ئه فه (19) پیتن و دی
 ھیتە ھژمارتن ب (190) خیرا و خودی زیدە دکەت بو وی یی بقیّت
 ، و فیجا تو چ دیژی بو ئایەتین درێژ و دوبارە کرنی و یاتە ژبەر.

ب. بو خاندنی : خشته یهك بو ختم کرنا قورئانی دهه یفا رہمہ زانی دا
 لیدیف دەمی خاندنی و دابەش کری ل سەر دەمی نقیژا :

یا عہیشا	یا مغرب	یا تیفاری	یا نیفرو	نقیڑا سپیدی	جہند جارین ختمی
4 لاپہر	4 لاپہر	4 لاپہر	4 لاپہر	4 لاپہر (صفحة)	ختمہ ک
8 لاپہر	8 لاپہر	8 لاپہر	8 لاپہر	8 لاپہر	دوو ختمہ
12 لاپہر	12 لاپہر	12 لاپہر	12 لاپہر	12 لاپہر	سی ختمہ
16 لاپہر	16 لاپہر	16 لاپہر	16 لاپہر	16 لاپہر	چار ختمہ
20 لاپہر	20 لاپہر	20 لاپہر	20 لاپہر	20 لاپہر	پینج ختمہ
24 لاپہر	24 لاپہر	24 لاپہر	24 لاپہر	24 لاپہر	شہش ختمہ
28 لاپہر	28 لاپہر	28 لاپہر	28 لاپہر	28 لاپہر	حہفت ختمہ
32 لاپہر	32 لاپہر	32 لاپہر	32 لاپہر	32 لاپہر	ھہشت ختمہ
36 لاپہر	36 لاپہر	36 لاپہر	36 لاپہر	36 لاپہر	نہہ ختمہ
40 لاپہر	40 لاپہر	40 لاپہر	40 لاپہر	40 لاپہر	دہہ ختمہ

ھندەك پیزانین دەر بارەوی قورئانا پیروز

قورئانا پیروز ئاخفتنا خودی تعالیه ، ویا ھنارتی ب ریکا جیبریلی –
علیه السلام – بو پیغەمبەری مە موھەممەدی ﷺ د ماوی (23)
سالادا .

1. ژمارا سورەتین وی 114 سورەتن. و 30 جزئە و 60 حزبە .
2. ژمارا ئایەتین وی 6666 ئایەتن .
3. ژمارا پیتین وی 322604 پیتن .
4. ژمارا سورەتین ل مە کەھی ھاتین خاری 86 سورەتن .
5. ژمارا سورەتین ل مە دینی ھاتین خاری 28 سورەتن .
6. ژمارا پە یفیئ قورئانی 77934 پە یفن .
7. ژمارا سو جدیئ د قورئانی دا ھاتین (14) سو جەدەنە .

8. ئیکەم ئایەتا ھاتی خاری (ھەر پینج ئایەتین دەسپیکا سورەت
العلق) : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿۳﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمُ) ¹.



9. دوماہی ثایہ ت ہاتی خاری ژ قورثانی : (وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ). [البقرة : 281].

* ہندہک بیرہوہری وہہ لکہفتین ہہیقا رہمہ زانی:

1. ل رہمہ زانا سالا ٹیکئی ژ ہنارتنا پیغہمبہری ﷺ وہ حی بو ہاتہ ہنارتن

2. ل 17 ہہیقا رہمہ زانا 2 مشہختی بیرہوہریا شہری بہدری یہ .

3. ل 28 ہہیقا رہمہ زانی ل سالا 2 مشہختی (زہکاتا فتری) یا فہرز بووی

4. ل 20 ہہیقا رہمہ زانا 8 مشہختی بیرہوہریا فہ کرنا مہ کہہی یہ .

5. ل 24 رہمہ زانا 20 مشہختی ٹیکہم مزگہفت ہاتہ ئافاکرن ل (مصری) ب سہرکرداتیا (عہمری کوری عاصی) .

6. ل 27 رہمہ زانا 65 مشہختی خیلافہتا (عبدالملك کوری مروانی) دەست پی کر پشتی مرنا بابی وی (مروان کوری حکم) ی .

7. ل 2 رہمہ زانا 114 مشہختی شہری (بلاط الشهداء) ہاتہ رویدان.

8. ل 15 رہمہ زانا 138 مشہختی ، سہرکردہ (عبدالرحمن الداخل) ژ دہریایی دہریابوو بو دامہ زراندا دہولہتا ئیسلامی ل ئەندہلوسی .

9. ل 4 ہہیقا رہمہ زانا 634 مشہختی موسلمانا ب سہرکرداتیا (خالد کوری و ہلید) روم شکاندن و باژیروی (بصری) لشامی فہ کرن
 10. ل 25 رہمہ زانا 658 مشہختی شہری (عین جالوت) ہاتہ رویدان دناقبہرا موسلمان و مہغولا دا ل شامی، و موسلمان ب سہرکہفتن .



حالی پیشین فی ئومه تی دگهل هه یفا ره مه زانی

سه له فیئ چاکین فی ئومه تی حالی وان دگهل هه یفا ره مه زانا پیروز جودا بی ژ حالی موسلمانین فی سهرده می ب تایبه تی هه ر سی چه رخی زیرینین دهستپیکا فی ئومه تی ژ صه حابیا (خودی ژوان رازی بت)، وتابعییا، وتابعین تابعییا (خودی دلوفانی ب وان ببه ت)، ئەفین کارو حالین خو ژ پیغه مبه ری خودی ﷺ وه رگرتین ، چونکی ئەو دفی هه یفی دا گه له کی مه رد وده ست فه کری بوو ، و خارن ددا ، وقورئان دخاند ، ونقیژین شه فی دکرن هه تا پیت وی یین پیروز شه ق شه ق دبوون ، وژ بلی فان ژ عیباده تی دی بی کو وی دهه یفا ره مه زانی دا چه ند جار زیده تر لی دکر ژ ده مین دی ، وسه له فیئ چاکین فی ئومه تی یین لیدیف سوننه ت وریکا وی چووین .

فیجا سه له فا هنده ک حال وکار دهه یفا ره مه زانی دا هه بین جودا ژ هه یفین دی :

ژوان ئیمامی مالکی کوری ئەنه سی – خودی دلوفانی بی ببه ت – ئەو بوو بی کو دهرسین وی ژ مزگه فتا پیغه مبه ری ﷺ نه دهاتنه راوهستان ، دا ل ره مه زانی راوهستینت چونکی مژیل دبوو ب خاندنا قورئانی فه ، گاها هه یفا ره مه زانی ب سه ردا هاتبا دا ژ دهرسا هه دیسی ره فت وروینشتنا ئەهلی زانیی ، ودا به ره ف خاندنا قورئانی چت ل سه ر مصحه فی .

وسوفیانی ثہوری - خودی دلوقانیی پی ببت - ہہ کہ گہشتبا
رہمہ زانی دا ہمی عیبادہتا ہیلت ، ودا بہرف خاندنا قورٹانی قہ
چت .

و ئیمام موحمہدی کوری ئیسماعیلی بوخاری - خودانی
صہحیحی - خودی دلوقانیی پی ببت - دہر روژہ کا رہمہ زانی دا
ختمہک قورٹانی دکر ، وہر سی شہفا ختمہک دکر .

وسہ عیدی کوری جوبہیری - خودی دلوقانیی پی ببت - ہہر دوو
شہفا جارہ کی قورٹان ختم دکر .

و وہلیدی کوری عبدالملکی ، ہہر سی روژا ختمہک دکر ،
ودرہمہ زانہ کی دا ہہقدہ ختمہ کرن .

و قہ تادہی - خودی دلوقانیی پی ببت - ہہر حہفت روژا جارہ کی
قورٹان ہمی دخاند ، وہہ کہ ببا رہمہ زان ہہر سی روژا جارہ کی
ختمہک دکر ، وہہ کہ ببا دہہکیئن دوماہیئ ہہر شہف ختمہک
دکر .

و رہبیعی کوری سولہیمانی - قوتایی ئیمامی شافی - خودی
دلوقانیی پی ببت - گوت : شافی د رہمہ زانی دا شیست ختمہ
دکرن ، ٹانکو د ہہر شہفہ کی دا دوو جارا ختم دکر ، ودہر
ہہیفہ کی دا سیہ ختمہ دکرن ، ٹانکو ہہیفین ژبلی رہمہ زانی .

فیجا ئەم چەند دویرن ژفان پێشیین خوہ (سلف الصالح)؟!

وہەر وەسا (وکعی کوری جەراحی) دەر شەفە کا رەمەزانی دا ختمەک و سیکە کا قورئانی دخاند ، و دوازدە رکاعەتین نقیژا (صلاة الضحی) دکرن ، وژ نیفر وەتا ئیفاری نقیژ دکرن .

وہەر وەسا (قاسمی کوری عەلی) بەحسی بابی خو دکەت (ئین عەساگر) خودانی (تاریخ دمشق): دگوت : بابی من بەردەوام بوو ل سەر نقیژین جەماعەت و خاندنا قورئانی ، وەر خوتبە ختمەک دکر ، ول رەمەزانی ہەر روژ ختمەک قورئانی دکر ، وئیعتکاف ل منارا شەرقی دکر ، ئانکو : ل مزگەفتا دیمە شقی .

(ابن رجب الحنبلی) دیژت : بەحسی دیارکرنا کاری فان سەلەفا ، وچونکی نەہیا ہاتی کرن مروف قورئانی ختم بکەت د کیمتر ژ سی روژا دا ، چونکی ہە کہ مروف د کیمتر ژ سی روژا دا قورئانی تمام بکەت مروف تی ناگەہیت ، ونەہی یا ژ فی چەندی ہاتی کرن .

فیجا (ابن رجب) دیژت : (بێ گومان ئەو نەہیا ہاتی کرن ژ خاندنا قورئانی د سی روژا کیمتر دا – ئەفە ہە کہ مروف بەردەوام بت – کو مروف ژیانا خو ہەمی ہوسا بخوینت قورئانی ژ سی روژا کیمتر ، بەلی ئەو دەمین خودان قەدرو وبہا ، وەکی ہەیفا رەمەزانی ، وب تایبەتی وان شەفین مروف زیندی دکەت ژ بەر شەفا (لیلة القدر) ، یان د جہین خودان بہا دا ، وەکی مە کہە پی بجیتە ویری

ونه خه لکی ویری بت ، هنگی خیره (مستحبه) کو مروف گه لهك ژ قورنایی بخوینت ، بوب دهست فه ئینانا خیرا وهختی و جهی (زمان و مکان) ، ونه فه گوتنا - ئیمام - (ئه حمهد و ئیسحاق یه وژیلی فان ژی ژ ئیماما ، وههروهسا کاری ییت ژیلی وان ژی به لگه یه ل سهر فی چهندی) ژ په رتوکا (لطائف المعارف).

وههروهسا (ابن رجب) دیژت : ئیمامی شافی - خودی ژی رازی بت- گوت : (ئه ز هه ز دکه م زه لام مه ردینی ل دهف خو زیده بکه ن دهه یفا ره مه زانی دا ، چاقلیکرن ب پیغه مبه ری خودی ﷺ ، وژیهر پیته یی یا خه لکی ب فی چهندی ، وژیهر مژیلی یا گه لهك ژوان ب روژی ونفیژا فه لسهر شولین خوه) ، فیجا مه ردینی دهه یفا ره مه زانی دا ل سهر خودانین مه ردینی وکهره می تشته کی باشه .



گوتئین مه زنه زانایا دهر باره ی روژی و هه يقا رهمه زانئ

1. زانای بھریز (عمرو بن قیس) - خودی دلوقانی پ بھت - دگوت : (بھهشت وسه فرازی بو وی که سی بت پ نه فسا خو چاک بکهت ژبهری رهمه زان ب سهدا بهیت)¹.
2. (عومهری کوری خه طای) - خودی ژی رازی بت - دگوت : ده می رهمه زان هاتا ، (بخیر بیت ئه واهه پاقر دکهت ژگونه ها).
3. گوتنه (أحنف بن قیس) - خودی دلوقانی پ بھت - ده می ژپی وی مه زن بووی : (تو پیره میړه کی مه زنی وروژی ته لاواز دکهت) .. وی گوت : (ئز خو پ حازر دکهم بو سه فهره کا دریژ ، و صه بر ل سهر طاعه تی خودی سفکتره ژ صه بر ل سهر عه زابا وی).
4. و (نافع کوری ئین عومهری) - خودی ژوان رازی بت - دگوت : (ئز تیر نه بیمه ئه وه ئه ز موسلمان بویم).
5. و (بابی سوله یمانی دارانی) دگوت : (هه که ته کاره ک ژ کارین دونیا وئاخره تی هه بت ، چ نه خوه هه تا تو وی کاری جی به جی دکه ی ، چونکی خارن عه قلی دگهورت).

[1 لطائف العارف ص 138]

6. و ژکیسی (ئەبو عمران الجونی) دگوت : (دهاته گوتن : ھەر کەسە کێ بقیّت دلێ وی روھن بیت بلا خارنا خو کیم بکەت).
7. وژ کیسی (عثمان بن زائدة) گوت : سوفیانی ئه وری بو من نقیسی : (هه که ته بقیّت له شی ته ساخله م بت ، وخه وا ته کیم بت ، تو خارنا خو کیم بکه).
8. و (حسن بن يحيى الخشني) دیژت : (هەر کەسی بقیّت چافین وی روندکا بریژن ، ودلی وی نازک بت ، بلا بخوت و فەخوت د نیف زکی خو دا - ئانکو : زکی خو تژی نه کەت).
9. و ژکیسی ئیمامی شافی ، دیژت : (ئەز تیر نه بیمه ئەفە شازده ساله ، ئیلا جارە کێ تی نه بت ئەوژی من هلاقیّت ، چونکی تیربون لەشی گران دکەت ، وتیگه هشتنی دبهت ، وخه وی دئیت ، وخودانی خو لاواز دکەت بو عیبادهتی).
10. و (ابن عبدالبر) دیژت : (بهسی مروفی یه خودایی بلنددیژت - الصوم لی- روژی بو منه ، بو بهایی روژی ل سەر هه می عیبادهتین دی).



ھندك دوعایین كومكهر (جامع) بو ھہیفا رومہ زانی

1. اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

2. اللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ
حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ
نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ
بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي،
وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.

3. اللّٰهُمَّ ارزُقني حُبَّكَ، وَحُبِّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللّٰهُمَّ مَا
رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيْمَا تُحِبُّ، اللّٰهُمَّ مَا رَزَوْتِ عَنِّي
مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيْمَا تُحِبُّ.

4. اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ .
5. اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمَعَايَاكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْثَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ .

6. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

7. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

8. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا .

9. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

10. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

11. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

12. رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَذِلِّ لِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

13. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَرَيْبَهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ .

14. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

15. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ .

16. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى .



17. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ .

18. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ .

19. اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ،

وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطَّنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَرْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا،

وَتُبِّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمِكَ مُشِينِينَ

بِهَا عَلَيْنِكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتِمِّمَهَا عَلَيْنَا.

20. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي .

21. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطِيئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ

ذَلِكَ عِنْدِي .

22. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلَامَةَ

مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ، وَالْقُورَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ .

23. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ،

وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَسْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوْلَاءِ الْأَرْبَعِ .

24. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا

أَعْلَمُ.

25. اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

دوماهیك

موسلمانان هیژا : دئی نامیلکی دا بو ته هاته دیارکرن کا روژییا ره مه زانی چهنه دیا بخیره ، وههروه سا بو ته هاته دیارکرن ئه و تشتین ب ئی هه یقی فه گریدای ب رهنکه کی کورت ، فیجا هه ره وهخته کی ته بقییت کاره کی بکه ی ونه خاسمه د هه یقا ره مه زانی دا بی ب له ز نه به ، به لی گه له ک ل دیف هه ره وبو خو پساراموستاییت نایی یین باوه رپیگری بکه ژبه ری تو وی کاری بکه ی ، دا خیر وبه ره که ت وخوشییا ئی هه یقی ژ دهستین ته نه چن ودا بهییه پاراستن ژ گونه ه ونه خوشییت دونیا وئاخره ئی ،

ول دوماهیئی ژ خودایین بلنددخازم ئه ف نامیلکه ببیته جهی مفای بو هه ره که سه کی موسلمان وخودان ئیمان .

وئزه هیقیی ژ خودی دکمه ئه و ئی کاری بکه ته دته رازییا خیرییت من ودهیبا بییت من دا وهه ره که سی پیته کا زانیی نیشا من دای. سبحانک اللهم وبحمدک ، أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرک وأتوب الیک ، وب دوما هیك هات ب چه زکرنا خودی لروژا دوو شه مبی 11 شعبانی 1438 هجری به رامبه ر 8 / 5 / 2017 .

وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله وصحبه أجمعین

لیستا ژیده ران

- قورئانا پیروز .

1. صحیح البخاری.

2. صحیح مسلم.

3. مختصر الفقه الاسلامی ، للتویجری.

4. صحیح فقه السنة ، ابو مالک کمال بن السید سالم.

5. الشامل المیسر فی فقه الکتاب والسنة ، مجد صبحی حلاق .

6. الوجیز فی فقه السنة والکتاب العزیز ، عبدالعظیم بدوی.

7. الملخص الفقہی ، صالح الفوزان .

8. هندهک نامیلکین کوردی، وژوان- روژیگرتنا هه یفا ره مه زانی- یا

مه لا جلیل صادق باخورنیفی .

9. ته فسیرا ساناھی ، تحسین دوسکی .

10. فتوایین مه زنه زانا یا .

11. وهندهک ژیده رین دی .. وهک المکتبه الشاملة .

نافه پروک

- 5 بی شه کی
- 7 قه در و قیصه ت و بهای ئ هه یفا ره مه زانی
- 12 جاوا خو ناماده بکه ین بو ره مه زانی
- 16 پی ناسه و هوکمی روزی ئ هه یفا ره مه زانی
- 18 نه حکامی ن روزی گرتنی
- 20 نه و نشتی ن روزی پی دکه فن
- 23 هوکمی روزیا نافره تا دووکیان و شیرده ر
- 25 نه و نشتی ن کو دروست وه لالن بو مروقی روزی گرتنی
- 29 ناداب و سوننه تی ن روزی گرتنی
- 32 مفا و بهای ئ روزی و روزی گرتنی
- 34 قه در و بهای ئ شه فا قه درئ
- 41 ئی عتکاف
- 45 زه کاتا فترئ
- 51 کرتنا شه سکا (شه ش روزی ن هه یفا شه والئ)
- هنده ک خسته بی ن ب سانا هی بو ختم کرن و ژبه رکرنا قورنانا پیروز دئی هه یفی دا 52
- 55 هنده ک پی زانی ن ده رباره ی قورنانا پیروز
- 58 حالی پی شی ئ فی ئومه تی دکه ل هه یفا ره مه زانی
- 62 کوتی ن مه زنه زانایا ده رباره ی روزی ئ وه یفا ره مه زانی

- 64 ھندەك دومايېن كۆمكەر (جامع) بو ھەيڤا رەمەزانى.
- 67 دوماھىك.
- 68 لىستا زېدەران.

مزگهفت

www.mzgaft.com